



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے آٹھویں راؤنڈ کا دوسرا روز مکمل

- تابش خان کی 5 وکٹوں نے سندھ کو سنٹرل پنجاب پر سبقت دلادی
- خیبرپختونخوا کے خلاف بلوچستان کی ٹیم مشکلات کا شکار
- حماد اعظم کی ناقابل شکست سنچری نے ناردرن کی پوزیشن مستحکم کردی

لاہور، 19 نومبر 2019ء:

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ کے دوسرے روز میزبان ٹیم نے سنٹرل پنجاب کے خلاف 9 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سندھ نے سنٹرل پنجاب کے 246 رنز کے جواب میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنالیے ہیں۔ سندھ کی جانب سے خرم منظور اور جاہد علی نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ خرم منظور 85 اور جاہد علی 72 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دونوں اوپنرز کے درمیان 140 رنز کی مضبوط شراکت نے سندھ کو پراعتماد آغاز فراہم کیا۔ شہزر محمد اور سعد علی کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد فواد عالم اور سرفراز احمد نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فواد عالم 42 اور سرفراز احمد 39 کے انفرادی اسکور سے کھیل کے تیسرے روز کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز سے میچ کے دوسرے روز کا آغاز کیا تو عثمان صلاح الدین 57 کے انفرادی اسکور پر تابش خان کی گیند پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے میچ کے تیسرے روز کھیل کا آغاز کرنے والے دوسرے کھلاڑی احسان عادل تھے جو 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم 246 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سندھ کے فاسٹ باؤلر تابش خان نے 85 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انور علی اور سہیل خان نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔

دوسری جانب یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ کا دوسرا روز خیبرپختونخوا کے نام رہا۔ ذوبیب خان کی سنچری کی بدولت پہلی اننگز میں 385 رنز

اسکور کرنے والی خیبر پختونخوا کی ٹیم نے 146 رنز پر بلوچستان کی پوری ٹیم کو پولین واپس بھجوادیا ہے۔ فاسٹ باؤلر جنید خان نے 4 اور عثمان شنواری نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ حریف ٹیم کے فاسٹ باؤلرز کی عمدہ باؤلنگ کی بدولت 33 کے مجموعی اسکور پر بلوچستان کی آدھی ٹیم پولین واپس لوٹ چکی تھی۔ بلوچستان کے 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوسکے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین بسم اللہ خان 35 رنز بناکر ٹاپ اسکور رہے۔ بلوچستان کی ٹیم تاحال 239 رنز کے خسارے کا شکار ہے۔ اس سے قبل خیبرپختونخوا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 290 رنز سے کھیل کا دوبارہ آغاز کیا تو ذویب خان اور عثمان شنواری نے اسکور بورڈ کو چلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان نویں وکٹ کے لیے 135 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ ذویب خان نے سنچری اور عثمان شنواری نے نصف سنچری اسکور کی۔ ذویب خان نے 16 چوکوں کی مدد سے 133 رنز بنائے۔ 136 گیندوں کا سامنا کرنے والے عثمان شنواری 51 رنز بناکر آؤٹ ہوئے بلوچستان کے اسپنر محمد اصغر نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

ادھر کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں سدرن پنجاب نے ناردرن کے خلاف پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز بنالیے ہیں۔ اوپنر عمر صدیق اور ذیشان اشرف نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ عمر صدیق 58 رنز بناکر کریز پر موجود تاہم ذیشان اشرف 57 رنز بناکر آؤٹ ہوچکے ہیں۔ سدرن پنجاب کی ٹیم تاحال پہلی اننگز میں 314 رنز کے خسارے کا شکار ہے۔ اس سے قبل ناردرن نے حماد اعظم کی سنچری کی بدولت 7 وکٹوں کے نقصان پر 463 رنز بناکر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ 5 وکٹوں کے نقصان پر 339 رنز کے مجموعے سے میچ کے دوسرے روز کھیل کا آغاز کرنے والے ناردرن کے آلراؤنڈر حماد اعظم نے 154 گیندوں پر ناقابل شکست سنچری اسکور کی۔ انہوں نے جمال انور اور نعمان علی کے ہمراہ بالترتیب 109 اور 66 رنز کی شراکت قائم کی۔ جمال انور 44 اور نعمان علی 37 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ حماد اعظم کی 100 رنز کی اننگز میں 6 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ سدرن پنجاب کے اسپنر محمد عرفان نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں سدرن پنجاب کی جانب سے اننگز کا آغاز متاثر کن نہ رہا۔ 11 کے مجموعی اسکور پر اوپنر سمیع اسلم آؤٹ ہوکر پولین واپس لوٹ گئے۔ پہلی وکٹ جلد گرنے کے بعد عمر صدیق اور ذیشان اشرف نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 116 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ میچ کے تیسرے روز عمر صدیق 58 اور محمد عرفان 15 رنز سے کھیل کا دوبارہ آغاز کریں گے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk